

Please write clearly in block capitals.

Centre number

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

Candidate number

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

Surname

Forename(s)

Candidate signature

GCSE URDU

H

Higher Tier Paper 3 Reading

Wednesday 15 May 2019

Morning

Time allowed: 1 hour

Materials

- You will need no other materials.

Instructions

- Use black ink or black ball-point pen.
- Fill in the boxes at the top of this page.
- Answer **all** questions.
- You must answer all the questions in the spaces provided. Do not write outside the box around each page or on blank pages.
- In **Section A**, answer the questions in **English**. In **Section B**, answer the questions in **Urdu**. In **Section C**, translate the passage into **English**.
- Do all rough work in this answer book. Cross through any work you do not want to be marked.

Information

- The marks for questions are shown in brackets.
- The maximum mark for this paper is 60.
- You must **not** use a dictionary.

| For Examiner's Use | |
|--------------------|------|
| Question | Mark |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| TOTAL | |



Section A

Questions and answers in English.

0 1

School life

Read the following extract from *Pitras-Kay-Mazameen* by Pitras Bukhari and answer the questions which follow.

"خدا کا یہ فضل ہم پر کب اور کس طرح ہوا؟ جب ہم نے امتحان پاس کیا تو میرے اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب خاص طور پر مبارکباد دینے کے لیے آئے۔ جس کی مجھے خوشی ہوئی۔ قریبی رشتہ داروں نے دعوتیں دیں۔ گاؤں کے رہنے والوں میں مٹھائی بانٹی گئی اور ہمارے گھر والوں کو ایک دم اس بات کا پتا چلا کہ "وہ لڑکا جسے آج تک اپنی بے پرواہی کی وجہ سے ایک بے کار اور نالائق بیٹا سمجھتے رہے تھے، دراصل بہت زیادہ قابلیت رکھتا ہے۔" چنانچہ ہماری آنے والی زندگی کے متعلق طرح طرح کے مشوروں پر غور کیا جانے لگا۔"

Read the following statements.

Write **T** if the statement is **true**.

Write **F** if the statement is **false**.

Write **NT** if the information is **not in the text**.

0 1 . 1

The writer was disappointed about his exam performance.

[1 mark]

0 1 . 2

He belonged to a very strict family.

[1 mark]

0 1 . 3

His head teacher came to congratulate him.

[1 mark]

0 1 . 4

Sweets were distributed in the city.

[1 mark]

0 1 . 5

His family had thought he was useless and carefree.

[1 mark]

0 1 . 6

His head teacher nominated him for an award.

[1 mark]

0 1 . 7

His family discussed different ideas for his future.

[1 mark]

7



0 2

Holidays

Read the following blog about a holiday experience in Turkey.

ہمیں ترکی میں چھٹیاں منانے کا بے چینی سے انتظار تھا مگر استنبول جانے والی ہماری پرواز تین گھنٹے کے بعد روانہ ہوئی۔ تاخیر کی وجہ ایک تکنیکی خرابی تھی۔

پرواز کے دوران ہمیں بتایا گیا کہ ہماری ٹکٹ میں مشروبات شامل ہیں مگر کھانے کے الگ پیسے ادا کرنے ہوں گے۔ استنبول ہوائی اڈے سے ہوٹل تک جانے کا انتظام پہلے سے ہی کر رکھا تھا۔ مگر ڈرائیور کو وہاں پہنچنے میں کافی وقت لگا کیونکہ سڑک پر کام ہو رہا تھا اور راستہ بند تھا۔ ایک گھنٹے کے انتظار کے بعد ہم گاڑی میں بیٹھ کر ہوٹل کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں گاڑیوں کی لمبی قطار لگی ہوئی تھی کیونکہ آنے جانے کے لیے صرف ایک ہی سڑک استعمال ہو رہی تھی اس لیے ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں تھا۔ تھکاوٹ سے برا حال تھا۔ آخر کار ہم ہوٹل پہنچ ہی گئے۔

ہوٹل ہمیں پسند نہیں آیا کیونکہ ہوٹل کے کمرے کافی پرانے اور خراب حالت میں تھے۔ ہمارے ساتھ والے کمرے میں مرمت کا کام بھی جاری تھا اور اس وجہ سے کافی شور رہتا تھا۔

Answer the questions in **English**.

0 2 - 1

What was the reason for the delayed flight?

[1 mark]

0 2 - 2

What was not included in the ticket price?

[1 mark]

0 2 - 3

Why did the airport transfer car arrive late?

[1 mark]

0 2 - 4

Why didn't they like the hotel in Istanbul? Give **two** reasons.

[2 marks]

1 _____

2 _____

5

Turn over ►



0 3

Home, town, neighbourhood and region

Read Ahmed's email about his new house and school.

السلام علیکم و سیم

آخر کار یہ طویل سفر ختم ہوا اور ہم ابھی کراچی میں ہیں۔ اس سے پہلے ہم ایک فلیٹ میں رہتے تھے مگر اب ہم چھوٹے سے قصبے میں ساحل سمندر کے قریب ایک گھر میں منتقل ہو گئے ہیں۔ ہمارا گھر کافی بڑا ہے اور اس میں چار سونے کے کمرے ہیں۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اس گھر میں مجھے میرا ذاتی کمرہ بھی ملا ہے جو کافی عرصے سے میری خواہش رہی ہے اور جلد ہی میں اس کی تصویریں بھیجوں گا۔ میں نے ابھی تک یہاں کوئی نیا دوست نہیں بنایا ہے۔ اس ہفتے اسکول میں میری کلاسیں جاری ہیں اور مجھے امید ہے کہ میری دوسرے طلباء سے بھی ملاقات ہوگی۔ سب کچھ نیا ہوگا۔ جمعرات کو میں ایک پارٹی میں شرکت کروں گا اور خوش قسمتی سے پارٹی اسی علاقے میں ہوگی جہاں میں پہلے رہتا تھا۔

تمہارا دوست

احمد

Which stages do the following aspects apply to?

Write **P** for something that happened in the **past**.Write **N** for something that is happening **now**.Write **F** for something that is going to happen in the **future**.

Write the correct letter in each box.



Do not write
outside the
box

0 3 . 1

Flat

[1 mark]

0 3 . 2

Beach

[1 mark]

0 3 . 3

Photos

[1 mark]

0 3 . 4

Classes

[1 mark]

0 3 . 5

Party

[1 mark]

| |
|---|
| |
| 5 |

Turn over for the next question

Turn over ►



0 4

Healthy living

Read the following article from an Urdu magazine about healthy lifestyles.

ورزش اور صحت

امید ہے ہمارے طبی ماہرین کے دیئے گئے مشورے آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔

ڈاکٹر سمینہ: میرے خیال میں آپ سبزیوں اور پھل کو اپنی غذا کا حصہ بنائیں۔ اسکے علاوہ گوشت کا استعمال ہفتے میں

دو بار کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن زیادہ گوشت کھانا خطرناک بیماریوں کو دعوت دیتا ہے۔

ڈاکٹر فائزہ: بیماریوں سے دور رہنے کے لیے تلی ہوئی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ تمباکو نوشی سے

بھی دور رہیں۔ دن میں آٹھ گلاس پانی ضرور پیا کریں اور صبح کا ناشتہ بھی ضرور کیا کریں۔

ڈاکٹر نواز: اگر آپ کی عمر پندرہ اور بیس سال کے درمیان ہے تو براہ مہربانی بھاری وزن والی ورزش سے دور رہیں۔ یہ

آپ کے جسم کو بڑھنے سے روک سکتی ہے۔ اس عمر کی بہترین ورزش اسکول کے عام کھیلوں میں حصہ لینا ہوتا ہے۔

ڈاکٹر حماد: اگر کھیلوں میں آپ کو دلچسپی ہے تو اس بات کا بھی علم ہونا ضروری ہے کہ کھیل اور جسمانی سرگرمیوں

کے صحت پر مثبت اثرات ہوتے ہیں۔ انسان کئی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔

ڈاکٹر آیان: اپنی صحت کو بہتر بنانے یا برقرار رکھنے کے لیے پیدل چلنے کی عادت ڈالنا بہت مفید ثابت ہو سکتا

ہے۔ صرف تیس منٹ ہر روز پیدل چلنے سے دل کی صحت میں بہتری، ہڈیوں کی مضبوطی اور اضافی جسم کی چربی کو کم

کیا جاسکتا ہے۔

Choose the correct statements from each medical expert. Write the correct letter in each box.

0 4 . 1

Doctor Sameena suggests...

| | |
|----------|--|
| A | Too much meat in your diet can cause fatal diseases. |
| B | Fruit and vegetables are only for vegetarians. |
| C | You should drink plenty of water daily. |

[1 mark]

0 4 . 2 Doctor Faiza suggests...

| | |
|----------|---|
| A | Regular exercise will keep you fit and healthy. |
| B | You can eat oily food occasionally. |
| C | You must eat breakfast every day. |

[1 mark]

0 4 . 3 Doctor Nawaz suggests...

| | |
|----------|--|
| A | Mental activities are effective at keeping your mind active. |
| B | Lifting weights doesn't affect the growth of your body. |
| C | Teenagers should participate in sporting activities. |

[1 mark]

0 4 . 4 Doctor Hammad suggests...

| | |
|----------|--|
| A | Football is a recommended sport to stay healthy. |
| B | Physical activity is essential to maintaining good health. |
| C | Eight hours of sleep keeps you fresh all day. |

[1 mark]

0 4 . 5 Doctor Ayaan suggests...

| | |
|----------|---|
| A | Eating fresh vegetables reduces excessive body fat. |
| B | Jogging keeps your body in shape. |
| C | A daily walk can help your bones become stronger. |

[1 mark]

| |
|---|
| 5 |
|---|

Turn over ►



0 5

Career choices

Some people are talking about future careers on a television show. What job is each person talking about?

| | |
|---|---|
| مجھے بچپن سے ہوا باز بننے کا شوق ہے کیونکہ میرے والد صاحب ایک نجی ایئر لائن میں انجینئر ہیں اور ہر وقت جہازوں کے متعلق بات کرتے ہیں۔ | A |
| اوپنچی اوپنچی عمارتوں کو دیکھ کر لوگوں کو حیرت ہوتی ہے مگر میں بڑا ہو کر معمار بنوں گا اور ایسی ہی عمارتیں بناؤں گا۔ | B |
| میں اپنے فارغ وقت میں موسیقی سیکھتا ہوں اور میری آواز بھی بہت اچھی ہے اسی لیے میں گلوکار بننا چاہتا ہوں۔ | C |
| مجھے ننھے بچوں کو پڑھانے کا بہت شوق ہے۔ میں اپنے مقامی پرائمری اسکول میں بچوں کی مدد کرنے جاتی ہوں۔ میں مستقبل میں استانی بنوں گی۔ | D |
| مجھے قانون میں بہت دلچسپی ہے۔ عدالتی کارروائی میں بے گناہ لوگوں کی مدد کرنے میں مجھے خوشی ملے گی۔ اس لیے میں وکیل بنوں گی۔ | E |
| میرا بچپن گاؤں میں گزرا اور میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ کھیتوں میں کام کیا۔ مجھے فصلیں اگانا اچھا لگا اس لیے میں زراعت کے شعبے میں کام کرنا پسند کروں گا۔ | F |

Write the correct letter in each box.

0 5 . 1

I will be able to read and interpret musical composition.

[1 mark]

0 5 . 2

I will fly passenger aircrafts to other countries.

[1 mark]

0 5 . 3

I will be able to give legal advice to clients.

[1 mark]

0 5 . 4

I will be working in the construction industry.

[1 mark]

4



0 6

Mobile phones

You read a Facebook post about mobile phones and their importance in our lives.

موبائل فون اور انٹرنیٹ کی اہمیت

وہ دن گزر گئے جب موبائل فون رکھنا بہت بڑی بات ہو کرتی تھی۔ اس زمانے میں ٹیکنالوجی میں تیزی سے ترقی ہو رہی ہے لیکن موبائل کمپنیوں کے درمیان مقابلے کی وجہ سے موبائل کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہر کوئی اچھے سے اچھا فون آسانی سے خرید سکتا ہے۔ موبائل فون میں ایسی چیزیں متعارف کروائی گئی ہیں کہ جسے دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ جیسے کہ اپنے فون سے ویڈیو کال کر کے اپنے دوستوں کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور بات چیت بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی منظر پسند آئے تو موبائل فون کے کیمرے سے بہترین تصویریں بھی لے سکتے ہیں۔ آپ اپنے دوستوں اور رشتے داروں کو تصویریں بھی بھیج سکتے ہیں مگر یہ سب کچھ انٹرنیٹ کی موجودگی میں ہی ممکن ہے۔

انٹرنیٹ کی ایجاد نے انسان کی زندگی اور بھی آسان کر دی ہے۔ اب گھر بیٹھے منٹوں میں آن لائن خریداری، جہازوں اور ریل گاڑیوں کے ٹکٹ، ہوٹل میں کمرے وغیرہ رعایتی قیمتوں پر حاصل کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ محفوظ ویب سائٹ کے ذریعے ہی یہ سب کیا جائے ورنہ مالی نقصان ہو سکتا ہے۔

Answer the following questions in English.

0 6 . 1

Why are mobile phones cheaper these days?

[1 mark]

0 6 . 2

According to the text, which new mobile phone feature is unavailable without the internet?

[1 mark]

0 6 . 3

According to the text, what warning was issued to online shoppers?

[1 mark]

3

Turn over ►



0 7

Home, town and neighbourhood

Your school has started to spread awareness around the local area about keeping the environment safe and clean. You have been given a leaflet to read.

ماحول کو صاف رکھنے کی مہم

ہمارے اسکول کی جانب سے ماحول کو صاف رکھنے کی مہم نویں جماعت کے طلباء کی محنت کا نتیجہ ہے۔ ان بچوں نے اپنے علاقے کی صفائی اور حفاظت کے لیے کچھ باتیں تجویز کی ہیں جن پر عمل کرنے سے ہم اپنے ماحول کو بچا سکتے ہیں۔

- کم فاصلے کو طے کرنے کے لیے پیدل چلنے یا سائیکل چلانے کو ترجیح دیں۔
 - جگہ جگہ کوڑا کرکٹ پھینکنے کی بجائے کونسل کے دیئے گئے ڈبوں میں پھینکیں۔
 - فضا کی آلودگی کی روک تھام کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں۔
 - پانی کا استعمال سوچ سمجھ کر کریں اور اسے ضائع نہ ہونے دیں۔
 - گھروں میں غیر استعمال شدہ بجلی کے آلات کو بند رکھیں اور بجلی کو ضائع ہونے سے بچائیں۔
 - پلاسٹک سے بنی اشیاء کو جلانے کی بجائے کونسل کی ہدایات پر عمل کریں اور مخصوص ڈبوں میں ڈالیں۔ تاکہ استعمال شدہ اشیاء کو دوبارہ استعمال میں لایا جاسکے۔
- آپ کے تعاون کا بہت شکریہ!

Choose the correct answer and write the letter in the box.

0 7 . 1

Which year group has started the campaign to keep the local environment clean?

| | |
|----------|---------|
| A | Year 7 |
| B | Year 9 |
| C | Year 10 |

[1 mark]



0 7 . 2 According to the leaflet, what will help reduce air pollution?

| | |
|----------|--------------------|
| A | Planting trees |
| B | Using bins |
| C | Reducing water use |

[1 mark]

0 7 . 3 According to the leaflet, what should be done to conserve energy?

| | |
|----------|-----------------------------------|
| A | Use solar panels |
| B | Use energy efficient appliances |
| C | Avoid switching on unused devices |

[1 mark]

0 7 . 4 According to the leaflet, what steps should be taken to deal with plastic material?

| | |
|----------|------------|
| A | Burn it |
| B | Discard it |
| C | Reuse it |

[1 mark]

| |
|---|
| 4 |
|---|

Turn over for the next question

Turn over ►



Section B

Questions and answers in Urdu.

0 8

نیچے دی گئی عبارت کو غور سے پڑھیں جو خدیجہ مستور کے مضمون "آنگن" سے لی گئی ہے۔

کھانے کی میز پر افطاری کا سامان رکھا جا چکا تھا۔ کریمین بوا کو شاید روزہ لگ رہا تھا، اس لئے ان میں کچھ کرنے کی طاقت نہیں رہی تھی اور وہ چپ سی بیٹھی تھیں۔ بڑے چچا باہر پلنگ پر بیٹھے جیب سے نکلی ہوئی گھڑی کو دیکھے جا رہے تھے۔ باہر بیٹھک میں بڑے چچا کے کئی مہمان بیٹھے روزہ کھلنے کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ اسرار میاں تو جیسے انتظار ہی میں تھے، جب مہمان ہوتے تو ان کے مزے ہو جاتے ورنہ وہ غریب تو روزہ بھی اس وقت ہی کھولتے جب وقت نکل چکا ہوتا۔

عبارت کے مطابق کون سی چار باتیں درست ہیں؟

| | |
|---|---|
| A | گھر میں کھانے کا کافی بہتر انتظام کیا گیا تھا۔ |
| B | گھر والے عید کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ |
| C | بڑے چچا کو افطار کے وقت کا بے چینی سے انتظار تھا۔ |
| D | کریمین بوا کافی خوش نظر آ رہی تھیں۔ |
| E | بڑے چچا باہر پلنگ پر بیٹھے تھے۔ |
| F | بڑے چچا کے مہمان ان کے ساتھ بیٹھے روزہ کھلنے کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ |
| G | ہمسائے بھی افطاری میں شامل ہوئے۔ |
| H | مہمانوں کا ہونا اسرار میاں کے لیے بہت خوشی کی بات ہوتی تھی۔ |

صحیح جوابات کے انگریزی حروف نیچے دیے گئے خانوں میں لکھیں۔

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

[4 marks]

4



Turn over for the next question

*Do not write
outside the
box*

**DO NOT WRITE ON THIS PAGE
ANSWER IN THE SPACES PROVIDED**

Turn over ►



موسم کا حال

آپ اسلام آباد کی سیر کا پروگرام بنا رہے ہیں اور آپ اردو اخبار میں موسم کا حال پڑھتے ہیں۔

موسم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں پیر کی صبح کو موسم خشک رہے گا۔ لیکن شام کو تیز بارش ہو گی۔ لاہور میں تین دن مسلسل بارش ہوتی رہے گی جس کی وجہ سے سیلاب آنے کا خطرہ ہے۔ ملک کے شمالی علاقوں میں بہت ٹھنڈ ہوگی اور برف پڑے گی۔ کراچی میں پہلے پانچ دن دھند کی وجہ سے گاڑی چلانا مشکل تھا۔ مگر ہفتے اور اتوار کے دن موسم خوشگوار ہو جائے گا۔ پشاور میں پورا ہفتہ بہت گرمی پڑے گی۔

ہر سوال کے صحیح جواب کا انگریزی حرف خانے میں لکھیں۔

پاکستان کے کس شہر میں تیز بارش ہوگی؟

0 9 . 1

| | |
|------------|---|
| اسلام آباد | A |
| پشاور | B |
| کراچی | C |

[1 mark]

لاہور میں موسم کی وجہ سے کیا نقصان ہوگا؟

0 9 . 2

| | |
|-------|---|
| فصلیں | A |
| سیلاب | B |
| ٹریفک | C |

[1 mark]



0 9 . 3

پاکستان کے شمالی علاقوں میں موسم کیسا ہوگا؟

| | |
|-------------------|---|
| آندھی | A |
| سردی بڑھ جائے گی۔ | B |
| خشک | C |

[1 mark]

کراچی میں موسم کیسا تھا؟

0 9 . 4

| | |
|-------|---|
| طوفان | A |
| گرمی | B |
| دھند | C |

[1 mark]

| |
|---|
| |
| 4 |

Turn over for the next question

Turn over ►



1 0

دوست کے نام ایک پیغام
آپ کے دوست احمد نے آپ کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے۔

مجھے ایک ضروری کام سے امریکہ جانا پڑ رہا ہے۔ دراصل میرے والدین چھٹیاں منانے وہاں گئے تھے مگر میری امی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ میرے والد صاحب کا فون آیا تھا کہ ان کو میری ضرورت ہے کیونکہ وہ اکیلے وہاں امی جان کا خیال نہیں رکھ سکتے۔ میں کل رات کی پرواز سے وہاں پہنچ جاؤں گا۔ میرے والدین کی واپسی کا ٹکٹ اگلے ہفتے تک کا ہے لیکن امی کی بیماری کی وجہ سے ان کو جلد واپس آنا ہو گا۔ میں نے ایئر لائن سے ان کے ٹکٹ آگے کروانے کی درخواست کی ہے مگر انہوں نے مجھے مزید تین سو پونڈ جمع کروانے کے لیے کہا ہے۔ میرے دو بھائی خالہ جان کے گھر میں رہیں گے اور بہن کام کے سلسلے میں بیرون ملک گئی ہوئی ہیں۔ مجھے اپنی نوکری سے چھٹی بھی مل گئی ہے۔ میں اپنی ہیڈ ٹیچر کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنے مختصر نوٹس پر میری تین دن کی چھٹیوں کی درخواست قبول کر لی ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ مجھے ایک دن کی تنخواہ نہیں ملے گی اور اس کے علاوہ واپسی پر مجھے مسلسل تین دن چھٹی کے بعد پانچ بجے تک ٹھہر کر کام مکمل کرنا پڑے گا۔

اوپر دی گئی عبارت پڑھیں اور ہر سوال کے صحیح جواب کا انگریزی حرف خانے میں لکھیں۔

1 0 - 1

احمد کو امریکہ کیوں جانا پڑ رہا ہے؟

| | |
|---|-----------------|
| A | سیر و تفریح |
| B | والدہ کی بیماری |
| C | نوکری |

[1 mark]



1 0 . 2

احمد کو والدین کے ٹکٹ تبدیل کروانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟

| | |
|----------------------|---|
| فون | A |
| پیسے دینے ہونگے۔ | B |
| ٹکٹ تبدیل نہیں ہوگا۔ | C |

[1 mark]

1 0 . 3

احمد کے بھائیوں کا کون خیال رکھے گا؟

| | |
|--------------|---|
| ابو کے بھائی | A |
| ماموں جان | B |
| امی کی بہن | C |

[1 mark]

1 0 . 4

احمد کا تعلق کس پیشے سے ہے؟

| | |
|-------|---|
| استاد | A |
| ڈاکٹر | B |
| وکیل | C |

[1 mark]

1 0 . 5

احمد کو چھٹیاں کس شرط پر ملیں؟

| | |
|---------------------------------|---|
| تین دنوں کی تنخواہ نہیں ملے گی۔ | A |
| اضافی کام | B |
| آدھی تنخواہ | C |

[1 mark]

5

Turn over ►



1 1

کیمپ کی سرگرمیاں

آپ کے اسکول نے گرمیوں کی چھٹیوں میں کیمپ کا آغاز کیا ہے اور آپ اپنے دوستوں کو وہاں لے جانا چاہتے ہیں۔ آپ کے دوست آپ کو میسج بھیجتے ہیں جس میں اپنی دلچسپیوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔

| <u>سرگرمیاں</u> | |
|---|--|
| کیمپ میں شامل سرگرمیوں پر دوستوں کے خیالات: | |
| جمال | کیمپ میں شامل ہونے والوں کو ڈھول اور طبلہ بجانا سکھایا جائے گا۔ مجھے موسیقی سننے میں دلچسپی ہے لیکن میں نے کبھی بھی کوئی ساز نہیں بجایا۔ |
| سلمان | ہاکی سیکھنے والوں کے لیے دو دن کے تربیتی کیمپ کا انتظام کیا گیا ہے اس کے بعد ٹورنامنٹ شروع ہوگا۔ مجھے ہاکی کھیلنے میں تو بہت مزا آئے گا۔ |
| حسن | کیمپ میں ہونے والی سرگرمیوں اور خبروں کے لیے ایک ویب سائٹ بنانا سکھائی جائے گی جس میں تصاویر اور بچوں کے انٹرویو شامل کئے جائیں گے۔ میں اپنے ماموں کی فوٹو گرافی سے بہت متاثر ہوں۔ |
| ارم | اسکول کے ایک خاص حصے میں جانوروں کو رکھا گیا ہے اور بچوں کو جانوروں کی دیکھ بھال کرنا سکھایا جائے گا۔ مجھے یہ جان کر بے حد خوشی ہے کہ مجھے اس سلسلے میں کافی معلومات حاصل ہوں گی۔ |
| سیما | بچوں کو ایک مشہور خانساماں مزے مزے کے پاکستانی کھانے پکانا سکھائے گا۔ مجھے بہت شوق ہے کہ میں چکن قورمہ بنانا سیکھوں۔ |
| عائشہ | ہمارے کیمپ میں پہلی بار بچوں کو اسکول کے سالانہ ڈرامے میں کام کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ ڈرامے کی دو گھنٹے کی کلاسیں ہوں گی۔ یہ موقع میں ہاتھ سے جانے نہیں دوں گی۔ |
| ماجد | پاکستان کے مشہور کرکٹ کھلاڑی نوجوانوں کو کرکٹ کھیلنا سکھائیں گے۔ کرکٹ سیکھنے میں دلچسپی رکھنے والے کیمپ کے منیجر سے رابطہ کریں۔ |



نیچے دیئے گئے سوالات کے سامنے صحیح دوست کا نام لکھیں۔ اردو میں جوابات لکھیں۔

1 1 . 1

کس کو پالتو جانوروں کی دیکھ بھال کرنے میں دلچسپی ہے؟

[1 mark]

1 1 . 2

کس کو کمپیوٹر اور فوٹو گرافی کے کاموں میں دلچسپی ہے؟

[1 mark]

1 1 . 3

کون کھانا پکانے میں ماہر بننے کا خواہش مند ہے؟

[1 mark]

1 1 . 4

کس کو موسیقی کے آلات بجانے کا کوئی تجربہ نہیں ہے؟

[1 mark]

1 1 . 5

کس کو اداکاری کرنے میں دلچسپی ہے؟

[1 mark]

5

Turn over for the next question

Turn over ►



There are no questions printed on this page

*Do not write
outside the
box*

**DO NOT WRITE ON THIS PAGE
ANSWER IN THE SPACES PROVIDED**



There are no questions printed on this page

*Do not write
outside the
box*

**DO NOT WRITE ON THIS PAGE
ANSWER IN THE SPACES PROVIDED**



There are no questions printed on this page

*Do not write
outside the
box*

**DO NOT WRITE ON THIS PAGE
ANSWER IN THE SPACES PROVIDED**



There are no questions printed on this page

*Do not write
outside the
box*

**DO NOT WRITE ON THIS PAGE
ANSWER IN THE SPACES PROVIDED**

Copyright information

For confidentiality purposes, from the November 2015 examination series, acknowledgements of third-party copyright material are published in a separate booklet rather than including them on the examination paper or support materials. This booklet is published after each examination series and is available for free download from www.aqa.org.uk after the live examination series.

Permission to reproduce all copyright material has been applied for. In some cases, efforts to contact copyright-holders may have been unsuccessful and AQA will be happy to rectify any omissions of acknowledgements. If you have any queries please contact the Copyright Team, AQA, Stag Hill House, Guildford, GU2 7XJ.

Copyright © 2019 AQA and its licensors. All rights reserved.



2 4



1 9 6 G 8 6 4 8 / R H

G/Jun19/8648/RH